



سوال

(387) خاوند کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے پیسے لینا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود میرے خاوند گھریلو اخراجات کے متعلق بہت تنگ کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں مجھے شرعاً اجازت ہے۔ کہ میں گھریلو اخراجات کے لئے اپنے خاوند کی جیب سے اس کی اجازت کے بغیر پیسے نکال لوں۔ (ایک خاتون۔۔۔ ملتان)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نکاح کے بعد بیوی کے جملہ اخراجات کی ذمہ داری خاوند پر عائد ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "نوشحال کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اخراجات پورے کرے۔ اور تنگ دست اللہ کی دی ہوئی حیثیت کے مطابق خرچہ دے۔" (65/اطلاق: 7)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تلقین فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے: "بیوی کے کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے اخراجات تمہارے ذمے ہیں۔" (صحیح مسلم الحج: 2950)

ان اخراجات میں کھانا پینا علاج رہائش اور لباس وغیرہ شامل ہے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان اخراجات کو پورا کرے۔ اگر وہ ان اخراجات کی ادائیگی سے پہلو تہی کرتا ہے۔ یا نخل سے کام لے کر پورے ادا نہیں کرتا تو بیوی کو یہ حق پہنچتا ہے۔ کہ وہ کسی بھی طریقہ سے خاوند کی آمدن سے انہیں پورا کر سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کے متعلق شکایت کی کہ میرا خاوند ابو سفیان گھریلو اخراجات پورے طور پر ادا نہیں کرتا تو کیا مجھے اجازت ہے۔ کہ میں اس کی آمدن سے اتنی رقم اس کی اجازت کے بغیر لے لوں جس سے گھر کا نظام چل سکے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہاں! اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر اتنا لے سکتی ہو جس سے معروف طریقے کے مطابق تیری اور تیری اولاد کی گزرا اوقات ہو سکے۔ یعنی گھر کا نظام چل سکے۔" (صحیح بخاری: النفقات 5364)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باریں الفاظ عنوان قائم کیا ہے:

"اگر خاوند اخراجات پورے نہ کرے تو بیوی کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے اس قدر لے لے جس سے معروف طریقے کے مطابق اہل خانہ کا گزارہ ہو سکے۔" مندرجہ بالا احادیث کے پیش نظر اگر خاوند گھریلو اخراجات کی ادائیگی میں نجوسی کرتا ہے۔ تو بیوی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اس کی اجازت کے بغیر اس کے

